

برائے فوری اجراء

## سٹی آف برامپٹن 2 فروری سے تیسرے سالانہ بیک یارڈ گارڈن پروگرام کا آغاز کر رہا ہے

برامپٹن، آن (2 فروری 2022) – آج سٹی آف برامپٹن کے کامیاب بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے تیسرے سال کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ماحول دوست اقدام شرکاء کو اپنے گھر کے بیک یارڈ گارڈن میں اجناس اگانے کے لیے مفت مٹی، بیج اور مفید مشورے فراہم کر کے ہمارے شہر میں غذائی اشیاء کے تحفظ میں مدد فراہم کرتا ہے۔

بیک یارڈ گارڈن پروگرام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں غذائی اجناس اور مفید جڑی بوٹیاں اگائیں اور اپنے گھر میں تیار کردہ اضافی فصلیں مقامی فوڈ بینکوں اور کمیونٹی تنظیموں کو عطیہ کریں۔

رہائشی مفت بیج اور مٹی حاصل کرنے کے لیے آن لائن طور پر [www.brampton.ca/backyardgarden](http://www.brampton.ca/backyardgarden) پر رجسٹر ہو سکتے ہیں، جس کا آغاز 2 فروری سے ہو رہا ہے۔ اس سال کے بیک یارڈ گارڈن کی تصاویر، باغبانی کی مفید تجاویز، ٹیوٹوریلز اور وسائل بھی اس ویب صفحہ پر دستیاب ہوں گے۔ رہائشی اپنے باغات کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے [BramptonBackyardGarden#](https://www.facebook.com/BramptonBackyardGarden) ہیش ٹیگ استعمال کر سکتے ہیں۔

یہ پروگرام [میئر کی کووڈ-19 سوشل سپورٹ ٹاسک فورس](https://www.brampton.ca/backyardgarden) کی جانب سے فوڈ سیکیورٹی پر توجہ دینے کی بھی معاونت کرتا ہے، جو سٹی کی ایک قابل دوام گرین سٹی ہونے کی ترجیح کی تصدیق کرتا ہے اور رہائشیوں کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کو فروغ دینے بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

اس سال، پروگرام کو سکاٹس کینیڈا لمیٹڈ کی جانب سے فخریہ اسپانسر حاصل ہے۔ سٹی اپنے پروگرام کے تمام معاونین بشمول میٹامی ہومز (Mattamy Homes)، پیراڈائز ڈیولپمنٹس، فیلڈ گیٹ ڈیولپمنٹس اور TACC ہولبورن کارپوریشن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔

کوئی سوال ہے؟ ای میل کریں: [BramptonGreenCity@brampton.ca](mailto:BramptonGreenCity@brampton.ca)

### بیک یارڈ گارڈن کلب ای نیوز لیٹر

برامپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹی اور چنگواکوسی گارڈن کلب کے تعاون کے ساتھ ہمارے ماہانہ بیک یارڈ گارڈن کلب ای نیوز لیٹر میں شامل ہو جائیں! جو باغبانی کے تمام شوقین افراد کے لیے کھلا ہے اور اراکین باغبانی کی معلومات، سوالات بھیجنے کے مواقع، باغبانی کے بارے میں مشوروں اور ماہرین اور کمیونٹی کے شراکت داروں کی معاونت، خصوصی پیشکشوں اور مزید بہت کچھ پر مشتمل ایک ماہانہ ای نیوز لیٹر وصول کریں گے۔

کلب میں رجسٹر ہونے کے لیے [www.brampton.ca/backyardgarden](http://www.brampton.ca/backyardgarden) ملاحظہ کریں۔

### پس منظر

شہر کے دوسرے سالانہ بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے دوران اپریل سے اکتوبر 2021 تک مقامی فوڈ بینکوں اور کمیونٹی تنظیموں کے ذریعے ضرورت مند رہائشیوں کو تقریباً 7,000 پونڈ پیداوار عطیہ کی گئی۔

برامپٹن کا بیک یارڈ گارڈن پروگرام اپریل 2020 میں کینیڈا میں اپنی نوعیت کے پہلے پروگرام کے طور پر، کووڈ-19 کے ردعمل میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ شہر کے موجودہ کمیونٹی گارڈن پروگرام کی ایک توسیع ہے۔

### اقتباسات

"ہمیں برامپٹن میں تیسرا سالانہ بیک یارڈ گارڈن پروگرام شروع کرنے پر فخر ہے۔ پچھلے دو سالوں سے، اس پروگرام نے ہماری کمیونٹی کو باغبانی کے ذریعے اکٹھا کیا ہے، ضرورت مند رہائشیوں کے لیے غذائی اشیاء کے تحفظ میں معاونت فراہم کی ہے اور شرکاء کو بیرونی مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھا ہے۔ میں نئے شرکاء کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ بیج اور مٹی کے لیے اندراج کرائیں اور اس سال اپنی کمیونٹی کو کچھ لوٹائیں!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کا بیک یارڈ گارڈن پروگرام دو سال سے جاری ہماری ایک زبردست کامیابی ہے اور میں تیسرے سال بھی اس اقدام کی شاندار کامیابی کے لیے پرجوش ہوں۔ پچھلے سال، ہم نے برامپٹن میں مقیم فوڈ بینکوں اور کمیونٹی تنظیموں کے ذریعے ضرورت مند رہائشیوں کو تقریباً 7,000 پونڈ پیداوار فراہم کی تھی۔ اُنہیے باغبانی کرتے ہیں اور برامپٹن کو کچھ دیتے ہیں!"

- ٹوگ ولہینز، سٹی کونسلر وارڈز 2 اور 6؛ چیئر، بیک یارڈ گارڈن پروگرام، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کا عملہ اس سال بیک یارڈ گارڈن پروگرام کی حمایت کرنے کا خواہشمند ہے۔ سٹی اپنے اسپانسرز اور حامیوں کے کردار کو تسلیم کرتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے جو اس اہم سبز اقدام کو زندہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج ہی مفت بیجوں اور مٹی کے لیے [www.brampton.ca/backyardgarden](http://www.brampton.ca/backyardgarden) پر رجسٹر ہو جائیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)